

Translation:

On this planet, it is very difficult to ~~survive~~ save the life from unnatural and accidental death, not only human but animals also have ^{this} awareness. Animal's life observers also know to, the animals belong from different species lives -together, travel together for the search of food. They never tryed to destroy eachother in the struggle of acquisition of food. They only gobble living things for survival because if they donot do this their survival became in danger. However, their gobbling activity ended where their hunger ended. In contrast human's hunger never ended. During their life spane, their ~~eye~~ never filled even they all gulp and at last, it filled with grave's sand. However, History

also claimed that : in every era,
everyone trying to create a
yuckas for mutual love between
human.

Q.No.9

Translate the following passage into English.

(15 Marks)

اس کرہ ارض پر زندگی کو تباہی، بربادی اور غیر فطری و غیر طبعی موت سے بچانے کے لیے ہتھکنڈے باہمی کے اصولوں کی پابندی ایسی ناگزیر ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی اس کا شعور رکھتے ہیں۔ جنگلی حیات کا معمولی مشاہدہ کرنے والوں کو بھی یہ علم ہے کہ حیوانوں کی مختلف انواع کے جانور باہم مل جل کر رہتے ہیں۔ چارے پانی کی تلاش میں اجتماعی سفر کرتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے رہتے ہیں، اپنی خوراک کے حصول کی جدوجہد میں ایک دوسرے کو فنا کر دینے کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ درندے اگر چندوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں تو اس لئے کہ وہ اگر ایسا نہ کریں تو ان کی ہتھکنڈے میں پڑ جائے گی۔ تاہم ان کی چیر پھاڑ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں ان کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ درندوں کے برعکس انسان ہیں کہ ان کی بھوک ان کی زندگی میں کبھی ختم نظر نہیں آتی، ان کا پیٹ جیتے جی ممکن حد تک سب بڑپ کر لینے کے باوجود نہیں بھرتا، تو قبر کی مٹی سے بھرتا ہے۔ تاہم تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دور ایسا نہیں رہا جو انسانوں میں باہمی محبت کی جوت جگانے والوں کی جدوجہد سے خالی رہا ہو۔